

میلاد شریف

دور

علامہ اقبال

مصنف نور محمد قادری

ناشر:

پروفیسر سید عاشر حسین شاہ عارفی

پتہ: آستانہ عالیہ قادریہ چشتیہ ضابریہ عارفیہ، سرگودھا، جامعہ و شادریہ عارفیہ (گٹھیلان)

زیر اہتمام:

پروفیسر قائدین گلان
پروفیسر گلان ڈسکہ سیالکوٹ

افضال احمد
ترجمہ و تالیف

۳۳

میلاد شریف اور علامہ اقبالؒ

مصنف: نور محمد قادری

ناشر:
پروفیسر سید عاشق حسین شاہ عارفی

پشاور: آستانہ عالیہ قادریہ چشتیہ صابریہ عارفیہ سرگودھا، جامعہ و شاہ دریہ عارفیہ (گنجان)

زیر اہتمام:

ڈاکٹر فائزہ بیگم
پروفیسر گلشن اقبال
پبلسنگز گلشن اقبال
چک گلان ڈسٹرکٹ سیالکوٹ

نام کتاب _____ میلاد شریف اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

تحریر _____ سید نور محمد قادری

ناشر _____ (باراول) مجلس خدام اسلام لاہور۔

_____ (باردوئم) حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ کراچی۔

_____ (بارسوئم) حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ گیلان شریف۔

طباعت _____ علیم القلم محمد شریف چشتی صابری عارفی بن احمد دین قادری۔

تلمیذ امام الخطاطین حضرت صوفی خورشید عالم خورشید رقم رحمۃ اللہ علیہ

تعداد _____ 500

تاریخ اشاعت _____ ۵ صفر المعظفر ۱۴۲۹ ہجری بمطابق فروری 2008ء

مطبوعہ _____ نی۔ ایم۔ آرٹ پریس

ملنے کا پتہ

حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ گیلان شریف (چک گلاں غربی) ڈسکہ ضلع سیالکوٹ

انتساب

ان ہستیوں کے نام جن کی روحانی توجہات سے یہ پیغام میلاد شریف امت مسلمہ کو پہنچانے کا اعزاز ملا۔

آقائی و مولائی مرشدی قطب العالم فقیر بے بدل فقیر بے مثل فقیر محمدی فقیر فانی فی اللہ
باقی باللہ حضور شاہ شاہاں خواجہ خواجگان حضرت شاہ محمد افضل قادری چشتی (صابری نظامی) قلندری
المعروف افضل سرکار قدس سرہ العزیز۔

آقائی و مولائی مرشدی عاشق رسول حضور قبلہ ابدال قاضی علیم اللہ عارفی سرکار رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ۔

والد گرامی حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مرکز مہرو وفا
حضرت پیر سید شہسوار شاہ قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ۔
برادر محترم پیر زادہ سید فیض احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ
آستانہ عالیہ قادریہ چشتیہ صابریہ عارفیہ گیلان شریف
ڈسکہ ضلع سیالکوٹ

اظہار تشکر

ہمارے ایک محترم قاری سید محمد عبداللہ شاہ صاحب نے چند روز ہوئے مجھے ایک

مقالہ بعنوان

”میلا د شریف اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ“ ارسال کیا۔

پاکستان میں مختلف ادارے اپنی مطبوعات مجھے وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی کرم فرمائی ہوتی رہتی ہے اور تصانیف و تالیف بھی موصول ہوتی رہتی ہیں۔ عدیم الفرستی کی وجہ سے ان کا جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ باری باری مطالعہ کرتی رہتی ہوں۔

ربیع الاوّل کے مبارک مہینہ کا وُرد شریف ہونے ہی والا ہے میں سوچتی تھی کہ کوئی حقیر ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کروں۔ جس کو آپ ﷺ کے ہاں شرف قبولیت عطا ہو۔ اور آپ کے اُمتیوں (بالخصوص گشتگانِ راہ) کو روحانی فائدہ حاصل ہو۔

اس مقالے کی تالیف کرنے والے ہمارے محترم قاری صاحب کے والد گرامی قبلہ سید نور محمد قادری صاحب ہیں۔ آپ نے جس عمدگی کے ساتھ اور فقیرانہ انداز میں یہ تالیف کی ہے وہ لائق تحسین ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین کی تقاریر و تحریر سے اقتباسات نہایت ہی اسلوب کے ساتھ اس میں اکٹھے کئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایمان کے موتیوں کی انمول مالا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کارِ خیر کی احسن جزا عطا فرمائے۔

چونکہ اس مراسلے میں یہ تحریر تھا ”اگر اس کتابچہ کو کوئی صاحب شائع کرنا چاہیں تو عام اجازت ہے۔“ اس اجازت کی خلوص دل سے شکر گزار اور ممنون ہوں جو میری اس ادنیٰ سی کاوش

کا باعث بنی۔ لہذا میں اس کو چھپوا کر اپنے روحانی عقیدت مندوں، دوسرے محبین اور مخلصین کے اندر تقسیم کر رہی ہوں تاکہ وہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ جوش و عقیدت کے ساتھ محفل میلاد کروائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس مقالے سے خوب دینی نفع عطا فرمائے۔ (آمین)

یہ ایک المیہ ہے کہ آج ہم اس فسق و فجور کے دور میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب مسلمانوں کو میلاد شریف کی اہمیت بھی بتانا پڑتی ہے اس لیے غیر تو غیر ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر وہابی فرقے کے اس قدر اثرات بڑھ چکے ہیں کہ معاذ اللہ لوگ میلاد شریف کروانے کی بھی شرک سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے دین کو صحیح طور پر جاننے کی فرصت ہی نہیں بس دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر گستاخانہ تحریریں سامنے آئی بھی ہیں تو کسی ردِ عمل کے اظہار کرنے کی حس باقی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میری نظر سے محترم و مکرم پیر کرم شاہ الازہری حج فیڈرل شریعت کورٹ کے ایک طویل انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا یہ ماہنامہ ”سیارہ ڈائجسٹ“ مارچ 1994ء کے شمارے میں شائع ہوا۔

انہوں نے اس میں تبلیغی جماعت کے بارے میں جو دل خراش انکشاف کیا۔ وہ یہ تھا کہ اس جماعت کے نصاب میں بیس صفحے درود شریف کے بارے میں تھے جو کہ اب نکال دیئے گئے ہیں اور اس طرح جہاد کا بھی۔

جہاد کا ذکر جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ وہ ہر راسخ العقیدہ مسلمان پر فرض ہے۔ اور درود شریف کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو اس وظیفے کا یوں حکم دیا گیا کہ ”اے ایمان والو! تم بھی نبی پر اس طرح درود و سلام بھیجو (جیسا کہ حق ہے) بہر حال اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ جب تک حضور ﷺ کی محبت صدق و اخلاص سے دل میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک وہاں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ ظاہری شکل و صورت پہ ساری چیزوں کے بارے میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے

کہ ”ایک وقت آئے گا جب تمہیں لوگوں کی عبادات وغیرہ دیکھ کر اپنی عبادات ہیچ نظر آئیں گی۔ مگر حقیقت یہ ہوگی کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج کے دور میں گلی گلی کوچے کوچے درس قرآن شروع کئے جا رہے ہیں۔

حضور ﷺ کی حدیث شریف ہے۔

”آپ ﷺ نے فرمایا یہ علم (یعنی کتاب و سنت کا علم) دین ہے۔ پس جب تم اس کو

حاصل کرو تو یہ دیکھ لو کہ کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔“

لارنس آف عربیہ کی بدنام شخصیت سے کون واقف نہیں وہ انگریز تھا۔ داڑھی رکھی،

عربوں سے بہتر عربی بولتا تھا۔ کافی مدت تک ان کو نماز پڑھاتا رہا۔ فتوے دیتا رہا۔ اور عرب لوگ

اس کی امامت میں نماز پڑھتے رہے۔ کوئی اس کو پکڑ نہ سکا کہ یہ دشمن دین ہے۔ چنانچہ 1935ء

میں جب وہ ہندوستان آیا تو اس نے اپنا نام پیر کرم شاہ رکھا اور اپنا سلسلہ چشتیہ صابر یہ بتایا اور خود

کو حضرت امداد اللہ کی کا خلیفہ ظاہر کیا۔ اس نے امرتسر میں ایک زبردست خطبہ دیا۔ بہت سے

لوگوں نے بیعت بھی کی۔ اس نے یہاں شادی بھی کی اور یہ شادی مرحوم وزیراعظم مقبوضہ کشمیر

(شیخ عبداللہ) کی بیگم سے کی پھر طلاق ہوئی اور پھر شیخ صاحب مرحوم سے شادی ہوئی۔ جب بھید

کھلنے کو آیا تو وہ اپنا مشن مکمل کر چکا تھا اور ہندوستان سے غائب ہو گیا۔ انسان جس طرح اپنے

دنیاوی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اُس پر فرض ہے کہ دل کی دولت (یعنی ایمان کی)

حفاظت دنیاوی دولت سے بڑھ چڑھ کر کرے۔ اسے بد مذہب اور گستاخان رسول کے ڈاکے

سے محفوظ رکھے۔ اور اپنی غفلت کے لیے معذرت کا بہانہ نہ ڈھونڈے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ

است۔

جب حضور ﷺ نے اپنے مشن کا اعلان کیا تو پھر کفار مشرک، یہودی، نصرانی، مجوسی

سبھی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ لائحہ عمل اختیار کیا کہ

مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوادی جائے۔ ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا جائے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ان کے دلوں سے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی عظمت محبت اور ادب ختم کر دیا جائے وہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام اتنے وارفتہ محبت تھے کہ حضور ﷺ کا پسینہ مبارک شیشیوں میں بند کر لیتے تھے۔ اس میں گلاب کی خوشبو آتی تھی۔ حضور ﷺ کا پس خوردہ اور نوش کیا ہوا پانی چھوڑتے نہ تھے اور حضور ﷺ پر اپنی جان تک نثار کرنے کے موقعہ کی تلاش میں رہتے۔ منافقین یہ سب چیزیں دیکھ چکے تھے اور وہ اس محبت و ادب کو ہی اس عظیم عمارت کی بنیاد سمجھتے تھے۔ لہذا جب بنیاد ہی نہ رہے گی تو عمارت خود بخود گر پڑے گی۔ یہ سب منافقین جو اسلام لائے زبانی کلامی دل سے سخت دشمن تھے۔ پھر مسلمانوں میں طرح طرح کے نزاعی امور کھڑے ہو گئے اور صرف خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طبعی موت حاصل ہوئی۔ باقی تینوں خلفائے راشدین شہید کئے گئے اس کے بعد جو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اب تو بھیس بدل کر منافقین کی تعداد مسلمانان عالم میں بہت زیادہ ہے۔ اور ان کو یہاں تک کامیابی ہوئی کہ عام سیدھا سادہ مسلمان بھی حضور ﷺ سے محبت اور ادب کو شرک سمجھنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ وہ اپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ روئے زمین پر چالیس کے قریب مسلمان ممالک ہیں۔ دنیاوی وسائل بے شمار ہیں۔ لیکن سب سے مظلوم و ذلیل قوم مسلمان ہے۔ ان کو دو چار یادس کی تعداد میں شہید نہیں کیا جاتا بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا جاتا ہے۔ اور آج یہ ایک دوسرے کے لئے آواز اٹھانے کو بھی تیار نہیں۔ ان کی ایک ایک کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ سب امریکہ اور برطانیہ کے پاؤں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس سے پہلے روس کے پاؤں چاٹتے تھے اور کمیونزم اور سوشلزم میں ہی اپنی نجات دیکھتے لہذا عرب اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کمیونسٹ اور سوشلسٹ ہو گئے۔ پھر روس میں جو انقلاب آیا وہ ان کو بھی بہا کر لے گیا۔ اور

پھر یہ یتیم ہو گئے۔ اور امریکہ کو مائی باپ بنا لیا۔ بات لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیشہ راسخ العقیدہ مسلمان بنائے۔

میری ایک استدعا ہے کہ کسی کو دوست بناتے وقت اس کے مذہب اور عقیدے کی چھان بین کر لیا کریں۔ انسان کا مقصد صرف اور صرف اچھے ڈنر کھا لینا اور تقاریب میں شمولیت ہی نہیں۔ حضور ﷺ کی اس حدیث شریف کو نہ بھولیں۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کے مذہب پر اس کے دوست کا بھی اثر ہوتا ہے۔ پس آدمی کو چاہئے کہ اچھی طرح دیکھ لیا کرے کہ کس کو دوست بنانے لگا ہے۔“

دعا گو و دعا جو

بیگم راشدہ صدیقی

قادری چشتی صابری عارفی

المعروف رابعہ ثانی

اظہار تشکر

ہماری مکرمہ محترمہ عزت و عصمت مآب حضرت بیگم راشدہ صدیقی المروف رابعہ ثانی
سرکار قادری چشتی صابری عارفی سلمہا اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا فیض اور آپ سے عقیدت و محبت کی
نسبت زیر عنوان کتابچہ پرنٹ کروا کر عاشقانِ آقائے دو جہاں سید الاولین و آخرین احمد مجتبیٰ محمد
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے میلاد شریف کے موقع پر تقسیم کرنے کی سعادت حاصل کی
جا رہی ہے۔

سگِ افضل سرکار

غلام علیم اللہ عارفی و قلندرہ رابعہ ثانی سرکار۔

احقر

عاشق حسین عارفی

○☆○

اللہ کی سر تابقدم شان ہیں یہ
 ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
 قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
 ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ
 اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

حضور اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں عقیدت و محبت کے اظہار کے لئے جو تقریب منعقد کی جاتی ہے اسے اصطلاحاً ”میلا دشریف“ کہا جاتا ہے اور یہ اصطلاح اس طرح حضور اکرم ﷺ کے یوم ولادت کے ساتھ مخصوص ہے کہ صحابہ کرام اور آئمہ اہل بیت میں سے کسی کے بھی یوم ولادت کو ”میلا دشریف“ کے نام سے نہیں پکارا جاتا یا ایسا کہنے کو سوائے ادب اور گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مہدوی فرقہ نے حیدرآباد دکن میں ایک سازش کے ذریعے سرکاری جنتری میں سید محمد مہدی جو پنپوری کے یوم پیدائش کے خانہ میں ”میلا دشریف“ کا لفظ چھپوایا تو پورے ہندوستان میں عاشقان رسول ﷺ میں احتجاج کی زبردست لہر دوڑ گئی اور جب تک سرکاری جنتری میں سے مہدی جو پنپوری کے نام کے سامنے سے میلا دشریف کے لفظ کو نکال نہ دیا گیا۔ حضور اکرم ﷺ کے غلاموں نے چین کا سانس نہ لیا۔

جناب پروفیسر الیاس برنی مرحوم نے اس قصہ بلکہ قضیہ کو اپنے خط بنام شاہ حسین میاں سجادہ نشین دربار پھلوا ری شریف میں اس طرح بیان کیا ہے۔

”میلا دشریف کا قصہ یہ ہے کہ یہاں ایک سرکاری جنتری شائع ہوتی ہے جس میں تعطیلات بھی درج رہتی ہیں۔ تعطیلات کے سلسلہ میں دوازدہم شریف یا زودہم شریف فاتحہ عرس یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعطیل میں لفظ ”ولادت“ استعمال ہوتا ہے تاکہ میلا دمبارک سے امتیاز رہے لیکن اپنے اثرات اور مسلمانوں کی عدم توجہی سے فائدہ اٹھا کر اسی جماعت نے سید محمد جو پنپوری کی تعطیل میں لفظ ”میلا دشریف“ درج کرالیا حالانکہ کم از کم حیدرآباد میں میلا دشریف رسول اللہ ﷺ کے واسطے مخصوص رکھتے ہیں حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے لفظ ”ولادت“ استعمال کرتے ہیں کہ اصطلاحات میں بھی فرق مراتب ملحوظ رہے اول خانگی طور سے مہدوی جماعت کو اس فرق پر توجہ دلانی گئی لیکن جب وہ راضی نہ ہوئی تو حکم ہو گیا کہ سرکاری جنتری میں لفظ ”میلا دشریف“ درج نہ ہوگا۔ مہدوی اپنے طور پر لکھیں تو وہ

جانیں“ ۱

غرض کہ امت محمدیہ اس مقدس دن کو بڑے ادب، احترام اور اہتمام سے مناتی آرہی ہے لیکن بد قسمتی سے دیوبندی حضرات (باشتنائے چند اس مبارک و مسعود دن کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے اسے بدعت قرار دیتے ہیں اور جہاں بس چلے تو مولود شریف کو روکنے اور بند کرنے یا کرانے کے لئے کسی قسم کا حربہ استعمال کرنے سے نہیں ہچکچاتے مثلاً جب نواب صدیق حسن خاں ریاست بھوپال کے سیاہ و سفید کے مالک بنے تو ریاست میں میلاد شریف کی مجالس کو حکماً بند کرا دیا۔ محترمہ آبرو بیگم صاحبہ نے اس مسئلہ کو نواب سلطان جہاں بیگم سابق فرمانبروا بھوپال کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے۔

”اثنائے گفتگو میں ہر ہائین نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ جی۔ سی۔ ایس۔ آئی فرمانروائے بھوپال دام اقبالہا نے مجھ سے فرمایا کہ جس زمانے میں نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم نے محفل میلاد کی رسم بھوپال میں موقوف کر دی تھی ایک روز مجھے اس کی نسبت بہت افسوس کے ساتھ خیال آیا کہ ایسی متبرک محفل کو اپنے یہاں کیوں کر قائم کروں۔

بار بار مجھے رسول اللہ ﷺ کی محبت مجبور کرتی تھی کہ میں آپ کی ولادت کے دن اپنے یہاں خوشی کا اظہار کروں لیکن اس مصلحت سے میں اور عالی جناب نواب سلطان الدولہ صاحب مرحوم نور اللہ مرقدہ اپنے دلی ارادے میں ناکامیاب رہتے تھے کہ محترمہ سرکار خلد مکان اور نواب صدیق حسن خاں صاحب ضرور یہ تصور فرمائیں گے کہ ہماری رائے کے خلاف محفل میلاد جاری کی ہے۔ تب میں نے خدا سے التجا کی کہ حضرت ﷺ کی پیدائش کے دن میرے یہاں کوئی خوشی کی تقریب ہو جائے تاکہ مجھے اس حیلے سے عین ولادت کے دن مسرت ظاہر کرنے کا موقع حاصل ہو۔ قدرت الہی اور معجزہ حضرت رسول مقبول ﷺ غور کے قابل ہے کہ صاحبزادی آصف جہاں صاحبہ مرحومہ کے بعد پندرہ سال تک کوئی اولاد مجھے نہیں ہوئی اور سب کو

یہ ہی یقین تھا کہ اب اولاد نہ ہوگی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے میری التجاسنی اور 8 ربیع الاول بہ روز سعید صاحبزادہ حمید اللہ خاں صاحب زاد اللہ عمرہ پیدا ہوئے اور مجھے اس روز سعید کو خوشی کے اظہار کا موقع مل گیا۔ اس دن سے اب تک ہر سال 8 ربیع الاول کو عید میلاد اس طرح منائی جاتی ہے کہ مسجد میں خوب روشنی کی جاتی ہے اور سوالا کھ درود شریف کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ عمدہ طعام پکا کر غربا اور دوستوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔“ ۲

میلاد مبارک کو حکماً بند کرانے کے فیصلہ کا نتیجہ نواب صاحب کے حق میں بہت برا نکلا اور وہ جلد ہی معزول کر دئے گئے۔ سید فتح علی شاہ صاحب ساکن کھروٹہ سیداں ضلع سیالکوٹ تحریر کرتے ہیں۔

”میرے زمانے میں دو واقعات عبرت انگیز واقع ہوئے ہیں۔

اول: نواب محمد علی خاں بہادر والی ٹونک نے ایک کتاب ”مرآة السنیة السیة لرد فتح المجالس المولدیة“ لکھی اس میں مجالس میلاد کے متعلق بہت سخت سست لکھا آخر چند روز کے بعد ہی حکومت ٹونک سے معزول کر کے بنارس میں نظر بند کئے گئے۔

دوم: نواب صدیق الحسن بہادر نے ریاست بھوپال میں امیر الملک والا جاہ کا خطاب حاصل کیا۔ کسی نے اتفاقاً ان کے زیر حکومت محفل میلاد منعقد کی۔ نواب صاحب نے اس کو سخت دھمکایا اور حکم دیا کہ اس کا مکان کھود کر معدوم کیا جائے۔ تھوڑے ہی دن گزرے کہ نوابی جاتی رہی کسی نے معزول کی تاریخ یوں لکھی ہے۔

چوں نواب بھوپال معزول شد
 بگیریہ پند ایہا الغافلون
 پے سال تاریخ ہاتف زغیب
 چنیں گفت لایح الظالمون ۳

۲ سبیل الرشاد مرتبہ سید ممتاز علی مطبوعہ لاہور ۱۹۳۲ء صفحہ ۶۸-۶۹

۳ الارشاد الی مباحث المیلاد تألیف علامہ محمد عالم آسی امرتسر ۱۹۳۲ء صفحہ ۳۳-۳۴

حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول ﷺ تھے میلاد شریف کی مجالس میں خود شرکت فرماتے اور عوام کو ان بابرکت مجالس میں شرکت کے لئے تلقین کرتے اور جب انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں علاقہ میں میلاد شریف کی مجالس منعقد ہوتی ہیں تو بہت خوش ہوتے۔ تفصیل ملاحظہ ہو۔

1- لاہور میں میلاد شریف کا باقاعدہ اجتماع 1911ء میں اسلامیہ کالج لاہور میں منعقد ہوا جس کی صدارت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار علی پور شریف (سیالکوٹ) نے کی مقررین میں حضرت علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ اس متبرک جلسہ کی روئداد رسالہ ”تہذیب نسواں“ میں شائع ہوئی جو درج ذیل ہے۔

”ہمیں اس بات کے دیکھنے سے بہت خوشی ہوئی کہ ”تہذیب نسواں“ کا پچھلے سال کا ننھا سا بویا ہوا بیج اس سال اچھا پھل لایا۔ اس سال کے بڑے نامی اخباروں نے عید میلاد کے خاص پرچے (نمبر) نکالے... علماء مجتہدین نے عید میلاد کو قومی طور پر منانا نہایت ضروری سمجھا اور اس کے لیے اشتہار جاری کئے۔ لاہور میں حضرت صوفی حاجی حافظ سید جماعت علی شاہ کی طرف سے اہل اسلام شہر کو عام منادی کی گئی کہ تمام دکاندار اور اہل حرفہ اپنا اپنا کام بند رکھیں اور دن بھر عید منائیں۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔

نماز ظہر کے بعد نماز عشاء تک اسلامیہ کالج لاہور میں عظیم الشان جلسہ رہا۔ جس میں علمائے دین اور مشاہیر واعظ اور خوش بیان لیکچرارز تقریریں اور وعظ کرتے رہے۔ شیریں بیان شاعروں نے نہایت موثر نظمیں پڑھیں۔ اثر کا یہ حال تھا کہ بعض وقت لوگ بے تاب ہو کر چیخیں مارتے تھے۔

ڈاکٹر محمد اقبال نے نہایت خوبی سے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ جلسے صرف تماشا نہیں بلکہ قومیت کو مضبوط کرنے اور اگلی پچھلی قوم کی شخصیت کو ایک کرنے کے لئے ان کا ہونا بہت

ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ساری قوم اپنے بزرگوں کے حالات سن کر خود ان عظیم الشان بزرگوں کی ذریت ہونے کا فخر اور گھمنڈ دل میں نہ پیدا کرے گی۔ تب تک ان کے سینوں میں الوالعزی اور بلند حوصلگی جوش زن نہیں ہو سکتی۔

شیخ عبدالقادر نے بہت خوبی سے پیغمبر خدا کے احسانات کا ذکر شروع کیا اور کہا کہ ان احسانوں کو کوئی کس طرح بیان کر سکتا ہے جن کی کوئی حد و غایت نہیں۔ میں گنہگار اس بھاری کام سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکتا ہوں۔ میں تبرکاً اس سلسلہ عظیم کی ابتداء اور انتہا میں صرف دو باتوں کا کچھ ذکر کروں گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سب سے اول احسان آپ کا ”قرآن پاک“ ہے جو وہ امت کے لیے لے کر آئے اور سب سے آخر احسان قیامت کو آپ کی شفاعت ہوگی۔

مسٹر ظفر علی خاں بی۔ اے نے نہایت پر جوش تقریر کی اور افسوس سے کہا کہ لاہور میں کم از کم مسلمانوں کی ایک لاکھ آبادی ہے جس میں پچاس ہزار عورتیں سمجھ لو۔ پچاس ہزار مردوں کو لازم تھا کہ وہ سب آج اس کالج کے میدان میں ہوتے اور اس کالج کے گرد نعرہ ”یا رسول اللہ“ لگاتے اور درود شریف کے ذکر سے یہ میدان گونج اٹھتا۔

شمس العلماء مفتی عبداللہ صاحب (ٹونکی) شمس العلماء مولوی عبدالحکیم صاحب پیر حاجی سید جماعت علی شاہ صاحب نے رسول خدا ﷺ کے اخلاق و شمائل پر تقریریں کیں۔

2- 1929ء اور 1930ء میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سجادہ نشین صاحبان علمائے کرام، مشاہیر قوم اور سیاسی اکابرین کے ساتھ مل کر میلاد شریف کو منانے کے لئے اخبارات میں مندرجہ ذیل اپیل شائع کی۔

”اتحاد اسلام کی تقویت۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و اجلال، حضور کی سیرت پاک کی اشاعت اور ملک میں بائیان مذاہب کا صحیح احترام قائم کرنے کے لئے 12 ربیع الاول کو ہندوستان کے طول و عرض میں ایسے عظیم ترین تبلیغی جلسوں اور مظاہروں کا انتظام

کیا جائے۔ جو حضور سید المرسلین ﷺ کی عظمتِ قدر کے شایانِ شان ہوں اور جنہیں دنیا محسوس کر سکے۔ اس دن ہر ایک آبادی میں علم اسلام بلند کیا جائے اور تمام فرزند ان اسلام بلا استثناء اس علم کے نیچے جمع ہو کر خداوند پاک سے عہد کریں کہ وہ ہر قدم پر رسول اللہ ﷺ کا نقش قدم تلاش کریں گے۔ ان ہی کی محبت میں زندہ رہیں گے اور ان ہی کی اطاعت میں جان دیں گے۔

انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل نے قوم کی اس متحدہ آواز پر لبیک کہتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ یوم ولادت سرور کائنات ﷺ کو اسلامیہ کالج کے وسیع میدان میں ایک عظیم الشان جلسہ کر کے لاہور میں اسوۂ رسول روحی فداہ کی اشاعت کرے اور اس شان سے حضور ﷺ کے احترام و اجلال کا علم بلند کرے کہ 12 ربیع الاول کے دن لاہور کا ایک ایک گوشہ ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ کی تصویر بن جائے۔

مسلمانان لاہور میں ہزار ہا اختلافات موجود ہوں گے لیکن حضور سید عالم کے عشق و احترام کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اس واسطے انجمن حمایت اسلام بلحاظ اختلاف تمام برادران اسلام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ انجمن کے ساتھ مل کر حضور ﷺ کے پاک نام اور مبارک کام کو دنیا میں بلند رکھنے کے لئے ایسی گرم جوشی اور عزم و ہمت کے ساتھ کام کریں کہ 12 ربیع الاول کے دن ایک خدا کے ماننے والے اور ایک نبی کے نام لیوا ”المسلمونک رَجَلٍ وَاحِدٍ“ کی تصویر بن جائیں۔ ۵

اس اپیل پر حضرت علامہ کے علاوہ جن اکابرین ملت نے دستخط کئے ہیں۔ ان میں سے چند اہم نام یہ ہیں۔

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- سید غلام بھیک نیرنگ، انبالہ | 2- مولانا غلام مرشد لاہور |
| 3- مولانا شوکت علی، بمبئی | 4- مولانا حسرت موہانی، موہان |
| 5- پیر سید مہر علی شاہ، گولڑہ شریف | 6- مولانا قطب الدین عبدالوالی، لکھنؤ |

- 7- دیوان سید محمد پاک پتن شریف
8- مولانا قمر الدین سیال شریف
9- مولانا فاخر الہ آباد
10- مولانا سید حبیب مدیر "سیاست"
11- پیر سید فضل شاہ جلاپور شریف
12- مولانا علی الحاتری لاہور
13- اور مولانا محمد شفیع داؤدی۔ بہار وغیرہم

جون 1931ء میں تحریک یوم النبی کے افتتاح کا اعلان کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال نے مسلم زعماء اور اکابر ملت کے ہمراہ ملت اسلامیہ کی خدمت میں یہ اپیل کی۔

”حضرت محمد ﷺ کی تعلیم و تربیت کا آفتاب ساڑھے تیرہ سو سال گزرنے پر بھی نصف النہار پر ہے اور انشاء اللہ تاقیامت زوال پذیر نہ ہوگا۔ ہمارے سلف صالحین نے تبلیغ اسلام میں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا تھا اور ہر زمانہ کے ذرائع کو حد شریعت کے اندر رہ کر استعمال کیا تھا، آؤ ہم سب مل کر موجودہ زمانہ کے موثر اور مفید ذریعہ تبلیغ کو اختیار کریں اور اس فرض تبلیغ کو ادا کریں جو ہمارے ہادی اور تمام عالم کے محسن کامل ﷺ نے ”بلغوا عنی.. فرما کر ہم پر فرض کر دیا ہے۔“

ہماری استدعا ہے کہ تمام ہندوستان کے طول و عرض میں سیرت النبی کی اشاعت کے لئے ایک ہی دن تبلیغی جلسے کئے جائیں۔ ایسے جلسے جو حضور ﷺ کی رفعت قدر کے شایان شان ہوں اور جنہیں دنیا محسوس کر سکے، چوں کہ ان جلسوں کو 12 ربیع الاول سے طبعی مناسبت ہے کہ یہ تاریخ تمام مبلغین وحی کے سردار اور دنیا کے مبلغ اکبر کے پیدا ہونے اور فرائض تبلیغ ادا کر کے رحلت فرمانے کی تاریخ ہے اس واسطے یہ تبلیغی جلسے 12 ربیع الاول کو کئے جائیں۔ اور تمام شہروں میں انتظام کے لئے معزز لوگوں کی سیرت کمیٹیاں بنا دی جائیں۔ اس دن تمام فرزند ان اسلام علم اسلام کے نیچے جمع ہو کر یہ اقرار کریں کہ ہم ہر قدم پر اسوہ رسول کی پیروی کریں گے اور ہماری نماز، قربانی، زندگی اور موت اللہ کے لئے وقف ہوگی۔“ ۶

اس موقع پر جن اکابر اسلام نے حضرت علامہ کا ساتھ دیا ان میں سے چند یہ ہیں۔

1- مفتی ثار احمد آگرہ

2- میاں سر محمد شفیع لاہور

3- مولانا شوکت علی دہلی

4- مولانا سید غلام بھیک نیرنگ انبالہ

5- پیر سید مہر علی شاہ گولڑہ شریف

6- مولانا سید حبیب لاہور

7- مولانا حسرت موہانی

8- مولانا محمد سجاد بہار

9- مولانا کشفی نظامی

10- ڈاکٹر شفاعت احمد خاں

11- مولانا غلام مرشد لاہور اور

12- مولانا سید علی حارّی لاہور وغیرہ

حضرت علامہ اقبال نے ”محفل میلاد النبی“ میں ایک دفعہ تقریر کی جسے اخبار ”زمیندار“ نے شائع کیا۔ آثار اقبال کے مرتب نے حضرت علامہ کی اس تقریر کو اپنے مختصر نوٹ کے ساتھ ”آثار اقبال“ میں شائع کیا ہے۔ وہ نوٹ اور تقریر درج ذیل ہے۔

مرتب کا نوٹ۔

”میلاد مبارک کی محفلوں کو ایک جماعت نے اپنے نادان شمندانہ غلو سے کام لے کر محض ایک مجموعہ رسوم بنا دیا ہے۔ دوسری طرف اس کے مقابلہ میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو سرے سے ان محفلوں ہی کو مٹا دینا چاہتی ہے۔ حضرت اقبال نے ایک موقع پر اس باب میں جو خیالات ظاہر فرمائے ہیں وہ اتنی بڑی حد تک معقول و معتدل ہیں کہ ان کی تقریر کی رپورٹ کو ”زمیندار“ کے صفحات سے لے کر ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ ۸

حضرت علامہ کا بیان:

”زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے انسانوں کی طبائع اُن کے افکار اور ان کے نقطہ ہائے نگاہ بھی زمانے کے ساتھ ہی بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا تہواروں کے منانے کے طریقے اور مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں اور اُن سے استفادہ کے طریق بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ

ہم بھی اپنے مقدس دنوں مراسم پر غور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کی تغیرات سے ہونی لازم ہیں اُن کو مد نظر رکھیں۔

مجملاً اُن مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں ایک ”میلا دالنبی“ کا مبارک دن بھی ہے میرے نزدیک انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لئے نہایت ضروری ہے کہ اُن کے عقیدے کے رو سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت اُن کے سامنے رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لئے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوۂ رسول ﷺ کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔ ان جذبات کو قائم رکھنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریق تو درود و صلوٰۃ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لاینفک بن چکا ہے۔ وہ ہر وقت درود پڑھنے کے مواقع نکالتے رہتے ہیں۔ عرب کے متعلق میں نے سنا ہے کہ کہیں بازار میں دو آدمی لڑ پڑتے ہیں اور تیسرا بہ آواز بلند اللھم صل علی سیدنا و بارک وسلم پڑھ دیتا ہے تو لڑائی فوراً رک جاتی ہے۔ اور متخاصمین ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے فوراً باز آ جاتے ہیں۔ یہ درود کا اثر ہے اور لازم ہے کہ جس پر درود پڑھا جائے اس کی یاد قلوب کے اندر اثر پیدا کرے۔

پہلا طریق انفرادی دوسرا اجتماعی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص جو حضور آقائے دو جہاں ﷺ کے سوانح حیات سے پوری طرح باخبر ہو۔ آپ کی سوانح زندگی بیان کرے تاکہ اُن کی تقلید کا ذوق و شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو۔ اس طریق پر عمل پیرا ہونے کے لئے ہم سب آج جمع ہوئے ہیں۔

تیسرا طریقہ اگرچہ مشکل ہے لیکن بہر حال اس کا بیان کرنا ضروری ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ یاد رسول ﷺ اس کثرت سے اور ایسے انداز میں کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود منظر ہو جائے یعنی آج سے تیرہ سو سال پہلے جو کیفیت حضور سرور عالم ﷺ کے وجود مقدس سے ہویدا تھی۔ وہ آج تمہارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے

حضرت مولانا روم فرماتے ہیں۔

آدمی دیداست باقی پوست است

دید آنت آنکہ دید دوست است

یہ جوہر انسانی کا انتہائے کمال ہے کہ اسے دوست کے سوا اور کسی چیز کی دید سے مطلب نہ رہے۔ یہ طریقہ بہت مشکل ہے کتابوں کے پڑھنے یا میری تقریر سننے سے نہیں آئے گا۔ اس کے لئے کچھ مدت نیکیوں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر روحانی انوار حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ہمارے لئے یہی طریقہ غنیمت ہے جس پر آج عمل پیرا ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس طریق پر عمل کرنے کے لئے کیا کیا جائے؟ پچاس سال سے شور برپا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ہے تعلیم سے زیادہ اس قوم کی تربیت ضروری ہے اور ملی اعتبار سے یہ تربیت علماء کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ایک خالص تعلیمی تحریک ہے صدر اسلام میں اسکول نہ تھے کالج نہ تھے۔ یونیورسٹیاں نہ تھیں لیکن تعلیم و تربیت اسکی ہر چیز میں تھی۔ خطبہ، جمعہ خطبہ عید، حج، وعظ غرض تعلیم و تربیت عوام کے بے شمار مواقع اسلام نے بہم پہنچائے ہیں لیکن افسوس کہ علماء کی تعلیم کا کوئی صحیح نظام قائم نہ رہا اور اگر کوئی رہا بھی تو اس کا طریق عمل ایسا رہا کہ دین کی حقیقی روح نکل گئی، جھگڑے پیدا ہو گئے اور علماء کے درمیان جنہیں پیغمبر علیہ السلام کی جانشینی کا فرض ادا کرنا تھا سر پھٹول ۹ ہونے لگی۔

دنیا میں نبوت کا سب سے بڑا کام تکمیل اخلاق ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا "بعثت لاتمم مکارم الاخلاق" یعنی میں نہایت اعلیٰ اخلاق کے اتمام کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اس لئے علماء کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری زندگی حضور ﷺ کے اسو حسنہ کی تقلید سے خوش گوار ہو جائے اور اتباع سنت زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خر بوزہ لایا گیا

تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے اس کو کس طرح کھایا ہے۔ مبادا میں ترک سنت کا مرتکب ہو جاؤں۔

کامل بسطام در تقلید فرد
اجتناب از خوردن خربوزه کرد

افسوس ہے کہ ہم میں بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوش گوار ہو اور ہم اخلاق کی فضا میں زندگی بسر کر کے ایک دوسرے کے لئے باعث رحمت ہو جائیں اگلے زمانے کے مسلمانوں میں اتباع سنت سے ایک اخلاقی ذوق ملکہ پیدا ہو جاتا تھا اور وہ ہر چیز کے متعلق خود ہی اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا رویہ اس چیز کے متعلق کیا ہو گا۔

حضرت مولانا روم بازار میں جا رہے تھے آپ کو بچوں سے محبت تھی، بچے کھیل رہے تھے، ان سب نے مولانا کو سلام کیا اور مولانا ایک ایک کا سلام الگ الگ قبول کرنے کے لئے دیر تک کھڑے رہے، ایک بچہ کہیں دور کھیل رہا تھا اس نے وہی سے پکارا اور کہا کہ حضرت ابھی جائے گا نہیں میرا سلام لیتے جائے گا بچے کی خاطر دیر تک توقف فرمایا اور اس کا سلام لے کر گئے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بچے کے لئے اس قدر توقف کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کو اس قسم کا واقعہ پیش آتا تو حضور بھی یوں ہی کرتے گویا ان بزرگوں میں تقلید رسول اور اتباع سنت سے ایک خاص اخلاقی ذوق پیدا ہو گیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، علماء کو چاہئے کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ قرآن و حدیث کے غوامض بتانا بھی ضروری ہے لیکن عوام کے دماغ ابھی ان مطالب عالیہ کے متحمل نہیں، انہیں فی الحلال صرف اخلاق نبوی کی تعلیم دینی چاہئے۔ ۱۰

حضرت علامہ کے اس بیان یا تقریر کے شروع میں مرتب نے تحریر کیا ہے کہ ایک ایسی

جماعت پیدا ہو گئی ہے جو اس مبارک تقریب کو منانے کے درپے ہے حقیقت یہ ہے کہ عید میلاد النبی کو اجتماعی اور قومی سطح پر منانے کے بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں ایک زبردست تحریک اٹھی تھی اور اس تحریک کو کامیاب بنانے میں "تہذیب نسواں" لاہور کا بہت اہم حصہ تھا۔ اس تحریک کی بدولت چند ہی سالوں میں برصغیر کے گوشے گوشے میں یہ مبارک تقریب قومی سطح پر منائی جانے لگی اور اس کو دیکھ کر ایک ایسا طبقہ جو بظاہر مسلمان کہلاتا ہے اس تحریک کے خلاف کھل کر میدان میں آ گیا۔ اس نام نہاد طبقہ کے رد میں ایک درد مند خاتون سیدہ جمیلہ قطب نے ایک مضمون بعنوان "انعقادِ بزمِ میلاد" تحریر کیا جو 25 مارچ 1911ء کے تہذیب میں چھپا۔ یہ مضمون اتنا ہی ایمان افروز و ضروری ہے۔ جتنا کہ آج سے 97 سال پہلے تھا۔ یہ مضمون سبیل الرشاد مرتب سید ممتاز علی کے چار صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”افسوس ہمارے ہندوستان میں بعض وہمیوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو پہلے میلاد شریف کو جائز سمجھتا تھا وہ فقط قیام کا منکر تھا لیکن اب سرے سے میلاد شریف کو بدعت سمجھتا ہے۔ خبر نہیں یہ لوگ میلاد شریف میں کون سی بات قرآن و حدیث کے خلاف دیکھتے ہیں۔ کہ رسول اللہ کے پیدا ہونے کی خوشی کو برا سمجھتے ہیں۔ جب آنحضرت ﷺ کا پیدا ہونا ہمارے لئے نعمت عظمیٰ ہے تو مطابق حکم قرآن مجید ”واما بنعمۃ ربک فحدث“ کہ اپنے پروردگار کی نعمت کا لوگوں کو ذکر کرنا کیوں نا آپ کا ذکر کیا جائے اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں رسول پیدا کیا اور رسول بھی ایسا جو رحمتہ العالمین ہے تو آیت ”بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا“ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و رحمت پر مومنین کو خوب خوشی منانی چاہیے (کے مطابق کیوں نہ سامان سرور یعنی محفل سجائی جائے احباب کو جمع کرنے، شیرینی وغیرہ بانٹنے کے ساتھ رحمت الہی کا بیان کیوں نہ کیا جائے آرائش محفل کیوں نہ کی جائے جب وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ ”من حرم زینۃ اللہ الاتی اخراج العباوہ والطیبات من الرزق“ (یعنی کس نے حرام کر دیا پاکیزہ

رزق کو اور اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی۔“
 چھوہارے کیوں نہ بانٹے جائیں جب آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اتقوا النار لو بشق
 تمرۃ“ یعنی آدھا چھوہار اذیکر دوزخ کی آگ سے بچو۔

مکان کو معطر کیوں نہ کیا جائے جب کہ سب جانتے ہیں کہ خوشبو آپ ﷺ کو نہایت
 محبوب تھی، لوبان کیوں نہ جلایا جائے جب کہ مسلم نے روایت بیان کی ہے:۔ ابن عمر جس وقت خوش
 شبو کی دھونی لیتے تھے تو خالص لوبان کی دھونی لیتے تھے تو لوبان کے ساتھ کافور بھی ملا دیتے تھے
 اور فرماتے کہ رسول خدا اس قسم کی خوشبو جلا کر دھونی لیا کرتے تھے۔۱۱

معتزین نے نہ صرف ”میلاد شریف“ کی مخالفت کی ہے بلکہ اس احترام، عقیدت
 اور تقدس کو بھی عوام کے قلوب سے مٹانے کی کوشش ہے جو انہیں حضور رسالتما ب ﷺ کی ذات
 پاک سے ہے کیونکہ ان کے نزدیک محافل میلاد شریف کو بند کرانے کا سب سے بہترین طریقہ
 یہی ہے کہ عوام کے دلوں سے محبت رسول ﷺ کے جذبے کو ختم کر دیا جائے اس کی ایک مثال
 ملاحظہ ہو۔ اس مثال کا تعلق ایک ایسی ہستی سے ہے جو علمائے دیوبند میں ”استاذ الکل“ کے لقب
 سے مشہور و معروف ہے۔ اس سے مراد مولانا سلیمان ندوی صاحب جانشین علامہ شبلی نعمانی ہیں۔
 استاذ الکل نے اپنے مرشد مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تصانیف و تالیفات
 کے بارے میں ”معارف“ اعظم گڑھ میں ایک مضمون بعنوان حکیم الامت کے ”آثار
 علیہ“ کے نام سے لکھا لیکن اس میں تھانوی صاحب کی تصنیف ”حفظ الایمان“ کا قصداً ذکر نہ کیا
 کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کتاب کی ایک ایمان سوز عبارت نے عاشقان رسول ﷺ کے قلوب
 پر گہرے زخم لگائے ہیں۔

اس پر معارف کے ایک قاری جناب محمد اویس صاحب گوڑگانوی نے جناب سلیمان
 ندوی صاحب کو جو مراسلہ بھیجا اور ندوی صاحب کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا اُسے ملاحظہ

کریں۔

سوال محمد ادریس صاحب

”مولانا صاحب۔ السلام علیکم

حکیم الامت کے آثارِ علیمہ ”معارف فروری 1944ء سے جناب کی ارادت ظاہر

ہے لیکن مورخ کو تصویر کے دونوں مد نظر ہوتے ہیں تمام مضمون بار بار دیکھا کتاب ”حفظ الایمان

“ جو مولانا کی عقائد میں خاص تصنیف ہے کہیں نظر نہ آئی جس کے ایک توہین آمیز فقرے نے

اہل اسلام میں شور برپا کر دیا۔ براہ کرم اس فقرے پر خیال آرائی فرما کر اہل ایمان کے شکوک رفع

فرمائیں۔ کتاب ”حفظ الایمان“ کا وہ فقرہ حسب ذیل ہے۔

اگر آنحضرت ﷺ کو کلی علم غیب تھا تو یہ ناممکن اور اگر جزوی تھا تو ایسا زید، بکر مجنوں

، دیوانا بلکہ جمیع حیوانات کو ہے ”جو اب ارشاد ہوتا ہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ عنایت نامہ ملا، اس برقت تنبیہ کا شکر یہ جو اُمید ہے خلوص کے

ساتھ کی گئی ہے اور میرا جواب بھی اسی اخلاص پر مبنی ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت کی کتاب

”حفظ الایمان“ کے جس فقرہ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ معنا اپنے مقام پر صحیح ہے اور کسی

ترمیم یا تصحیح کی اس میں ضرورت نہیں لیکن چونکہ بعض حضرات کے اعتراضات سے حضرت مصنف

کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فقرہ ان بعض حضرات کے لئے معاذ اللہ توہین نبوت کا موہم ہوا ہے

تو حضرت ممدوح نے اس کی جگہ اس معنی کی دوسری عبارت ”حفظ الایمان“ کے دوسرے ایڈیشن

میں بدل دی اور بطور ضمیمہ بھی شائع کر دی جو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری چنانچہ وہ عبارت یہ

ہے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ﷺ کی کیا تخصیص ہے۔ مطلق بعض علوم غیبیہ

تو غیر انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل میں تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ ۱۲

دیکھا آپ نے ندوی صاحب اپنے مرشد کی پہلی ایمان سوز عبارت کو نہ صرف معنا ہی

صحیح سمجھتے ہیں بلکہ اس میں ترمیم و اصلاح کے بھی قائل نہیں اور عبارت میں جو بادل نحو استہ تبدیلی کی گئی ہے وہ خلوص دل سے نہیں کی گئی بلکہ صرف چند سر پھرے مولویوں کے خوف سے۔

ندوی صاحب کا کہنا بھی صحیح نہیں کہ دوسرے ایڈیشنوں یا اس کے بعد ایڈیشنوں میں عبارت تبدیل کر دی گئی ہے۔ بازار میں جو عام طور پر حفظ الایمان ملتی ہے اس کے متن میں وہ ایمان سوز عبارت بعینہ موجود ہے۔ جناب محمد اولیس صاحب نے تو عبارت کو پیش کرتے وقت مختصر کر دیا ہے۔ عام قارئین کی آگاہی کے لئے پوری عبارت درج ذیل ہے۔

”آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر صبی و مجنوں بلکہ جمیع حیوانات و اور بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ ۱۳

خدا کی قدرت تو دیکھیے کہ ایک طرف نام نہاد علماء و فقہا اشرف ترین اور بزرگ ترین ہستی کے میلاد مبارک کو بدعت اور ناجائز کہتے نہیں تھکتے دوسری طرف ایک دیوانہ محمد ﷺ اپنے پس ماندگان کو وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے وہ چند اشعار جو میں نے ایک کاغذ پر لکھ رکھے ہیں میری لحد میں رکھ دیئے جائیں تاکہ میری بخشش کا سامان یہ اشعار بن جائیں۔ جناب سید نذیر نیازی صاحب مرحوم اپنی بے مثل تخلیق ”دانائے راز“ میں تحریر کرتے ہیں۔

”گرامی کی وصیت تھی کہ ان کی ایک رباعی اور نعت کے چند اشعار جو ایک پرزہ کاغذ پر لکھ رکھے ہیں لحد میں رکھ دیئے جائیں۔ مگر یہ تحریر نہ مل سکی۔ ایک روز بیگم کے خواب میں آئے، کہنے لگے بخشش کا فکر نہ کرو، رباعی اور نعت لوح مزار پر کندہ کرادو تعمیل ارشاد کر دی گئی۔

رباعی یہ ہیں۔

خاور دمداز شہم بایں تیرہ شی

کوثر چکداز لہم بہ این تشنہ لبی

اے دوست ادب کہ درخیم دل ماست

شاہنشاہ کونین رسول عربی

نعت کا آخری شعر ہے۔

گرامی در قیامت آں نگاہ معرفت خواہد

کہ در آغوش گیرد جرم ہائے بے حسابش را ۱۴

(۳) حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست محمد جمیل صاحب نے جب

انہیں یہ اطلاع دی کہ جنوبی ہندوستان میں عید میلاد النبی ﷺ بڑی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے تو بہت خوش ہوئے اور انہیں جواباً تحریر فرمایا۔

”مجھے اس اطلاع سے بے حد مسرت ہوئی کہ جنوبی ہندوستان میں ”یوم النبی“ کی

تقریب کے لئے ایک ولولہ پیدا ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کے لئے رسول اکرم ﷺ کی ذات اقدس ہی ہماری سب سے بڑی اور کارگر قوت ہو سکتی ہے، مستقبل قریب میں جو حالات پیدا ہونے والے ہیں ان کے پیش نظر مسلمانان ہند کی تنظیم اشد لازمی ہے۔

عبدالجمید صاحب قریشی بانی تحریک سیرت آج تشریف لائے ہوئے تھے، میں نے

انہیں بتایا ہے کہ کس طرح اس تحریک کو ہندوستان میں خدمت اسلام کے لئے مؤثر و مفید بنایا جا سکتا ہے۔ ۱۵

جناب قریشی صاحب کی قائم کردہ ”سیرت کمیٹی“ کی کامیابی اور تبلیغی کوششوں سے

متاثر ہو کر حضرت علامہ نے چند دردمند مسلمان دوستوں کے ہمراہ درج ذیل بیان جاری کیا جس

میں سیرت کمیٹی کی خدمات کو سراہا ہے اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔

”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی اشاعت و اطاعت دونوں جہاں کی سعادت اور سرخروئی کا سرچشمہ ہے۔ اگر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اخلاق و اعمال کو اپنے سامنے رکھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرتے تو اقوام عالم میں وہ سب سے اونچی جگہ کے مستحق ہوتے اور اب بھی ان کے منظم اور متحدہ ہونے، بھائی بھائی بننے، دولتِ ایمان حاصل کرنے اور اسلام کی عظمت اور سچائی تک پہنچنے کا سب سے سچا اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی عملی اور اخلاقی زندگی میں رسول اللہ کے نیک نمونہ کی پیروی کریں۔

یہ حقیقت محتاجِ بیان نہیں کہ سیرت کمیٹی پٹی (ضلع لاہور) کی نیک کوششوں سے مسلمانانِ عالم سیرت پاک کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور تمام دنیائے اسلام کے اکابر، علماء اور سلاطین تک نے اس تحریک کا خیر مقدم کیا ہے، مزید برآں سیرت کمیٹی کے نصف درجن سے زیادہ مبلغ اور داعی ہندوستان اور غیر ممالک میں میں مصروف عمل ہیں اور سب سے زیادہ قابلِ قدر اور لائقِ تعریف بات یہ ہے کہ سیرت کمیٹی اس مبارک تحریک کو شروع ہی سے تجارتی بنیادوں پر چلا رہی ہے اور گزشتہ چار سال کے عرصے سے اسے پبلک چندہ سے پاک رکھا گیا ہے اور تحریک اور اس کے مبلغوں کے اخراجات اخبار ”ایمان“ اور کتب سیرت کے منافع سے پورے کئے جاتے ہیں۔

سیکرٹری کی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ سیرت کمیٹی اپنے مبلغوں کی جماعت کو سرحد، سندھ، گجرات، سی پی اور بمبئی کے علاقوں میں بھیج رہی ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو حضرت رحمتہ للعالمین کے نقش قدم کی پیروی کی دعوت دیں۔ ہم ان صوبوں کے معززین، امراء، علماء اور اسلامی مجلس کے اراکین سے بزور استدعا کرتے ہیں کہ سیرت رسول ﷺ کے مبلغوں اور سفیروں کی ان کے نیک اور عظیم الشان کام میں تہ دل سے امداد فرمائیں۔ عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس

کائنات میں سب سے زیادہ بابرکت، مقبول و مفید اور قابل عزت کام جو خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور خلق خدا کی بہبود کا جامع ہو یہ اور صرف یہ ہے کہ فرزندان اسلام متحد اور متفق ہو کر پوری مستعدی اور اخلاق سے حضرت ختم المرسلین ﷺ کے اسوۂ پاک کی منادی کریں۔ اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسوۂ رسول ﷺ کی اشاعت کرنا دین و دنیا، مغفرت و نجات، مذہب و سیاست اور رضائے حق اور قبول الہی کے جملہ سرشتوں کی جان ہے۔ ۱۶۔

مجلس میلاد شریف میں ”قیام“ ایک اہم مسئلہ ہے اس کے متعلق سید ممتاز علی صاحب دیوبندی اور سر سید احمد خاں صاحب مرحوم کے قول و فعل کا مطالبہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔

سید ممتاز علی صاحب کا ارشاد ہے۔

”رہا قیام مجھے ایسی مخفل میلاد میں شریک ہونے کا اتفاق نہیں ہوا جس میں قیام ہوا ہو بہت سے لوگ اس قسم کی محفلوں میں قیام بھی نہیں کرتے، مگر جو کرتے ہیں وہ بُرا نہیں بلکہ اچھا کرتے ہیں۔ جب کسی کے مرنے پر ماتمی جلسہ کیا جاتا ہے تو تقریروں کے بعد جب موت کے افسوس کا ریزولوشن پاس ہونے لگتا ہے تو اس وقت سب حاضرین مجلس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس عزیز مرحوم کی تعظیم کا نشان ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ روح اس وقت وہاں موجود ہے اور بہت اغلب ہے کہ وہ موجود ہوتی ہو۔ پس بڑی حیرت اور شرم کی بات ہے کہ ہم دنیا کے معمولی آدمیوں کی روح کی کھڑے ہو کر تعظیم کرتے بجالائیں اور سرور کائنات ﷺ کی روح پر فتوح کی تعظیم نہ کریں۔ جب ہم پیغمبر خدا ﷺ کی روح مبارک کے آنے کا ذکر کرتے ہیں تو میں اس کے صرف یہ معنی سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت اس روح مطہر کے احاطہ رویت و سماعت میں آجاتے ہیں۔ پس ہم اگر آپ کی نگاہ و سماعت میں آگئے تو یہی آپ کی تشریف آوری ہے اور یہی آپ کی خدمت میں ہماری حاضری“ ۱۷۔

سر سید احمد خاں کی مجلس میلاد شریف میں حاضری کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے۔

”میری اپنی ذاتی ایمانی شہادت یہ ہے کہ میں نے سرسید کو مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کالج کے طالب علم سالانہ محفل میلاد منعقد کرتے تھے اس میں سرسید آکر بیٹھتے تھے اور آخر تک بیٹھے رہتے تھے، سلام کے موقع پر سب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سب کے ساتھ بلند آواز سے سلام پڑھتے تھے۔ ۱۸

مندرجہ بالا عبارتوں پر ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتے یہ اپنی وضاحت آپ ہیں۔

اب آخر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول ﷺ کے متعلق جناب فقیر سید وحید الدین کی ایک مختصر تحریر اور حضرت علامہ کی چند نعتیہ اشعار پیش کر کے اس موضوع کو سمیٹا جاتا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اس موضوع پر انشا اللہ تفصیلی بحث کی جائے گی جس کا یہ بجا طور پر مستحق ہے۔

فقیر سید وحید الدین فرماتے ہیں۔

”ڈاکٹر محمد اقبال کی سیرت اور زندگی کا سب سے زیادہ ممتاز محبوب اور قابل قدر وصف جذبہ عشق رسول ہے، ذات رسالت مآب کے ساتھ انہیں جو والہانہ عقیدت تھی اس کا اظہار ان کی چشم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا کہ جہاں کسی نے حضور ﷺ کا نام ان کے سامنے لیا ان پر جذبات کی شدت اور رقت طاری ہوگئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے رسول ﷺ کا نام آتے ہی ان کا ذکر چھیڑتے ہی اقبال بے قابو ہو جاتے۔

عشق رسول ڈاکٹر اقبال کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا اور ان کے ذہن و فکر پر چھا گیا تھا وہ کتنے بڑے فلسفی تھے اور فلسفہ کا سارا معاملہ عقل کے بل بوتے پر چلتا ہے۔ مگر رسول اللہ ﷺ کی سیرت کو وہ عقل کی کسوٹی پر جانچنے کی جرات نہ کرتے تھے، اس معاملہ میں وہ ایمان بالغیب کے قائل تھے۔ پس جو حضور ﷺ نے فرما دیا وہ دین و ایمان اور سر آنکھوں پر اس بارگاہ میں چون

و چرا کی گنجائش نہیں، سمعنا و اطعنا، فرمانبرداری اور غلامی، یہی ایمان کی دلیل بلکہ بنیاد ہے۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر باو نرسیدی تمام بولہی است

اقبال کی شاعری کا خلاصہ جو ہر اور لب لباب عشق رسول اور اطاعت رسول ہے میں نے ڈاکٹر صاحب کی صحبتوں میں عشق رسول کے جو مناظر دیکھے ہیں ان کا لفظوں میں اظہار بہت مشکل ہے وہ کیفیتیں بس محسوس کرنے کی تھیں۔“ ۱۹

نعتیہ اشعار:

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب

گنبدِ آگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب

عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ

ذره ریگ کو دیا تو نے طلوعِ آفتاب

شوکتِ سحر و سلیم تیرے جلال کی نمود

فقیر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب

شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے

عقل غیاب و جستجو۔ عشق حضور و اضطراب

(بال جبریل)

پیش او گیتی جبیں فرسودہ سب خویش را خود عبودہ، فرمودہ است

جوہر اونی عرب نے اعجم است آدم است وہم ز آدم اقدم است

عبودہ، صورت گر تقدیر ہا اندر و ویرانہ ہا تعمیر ہا

عبدہ، ہم جانفزا ہم جانتان عبدہ، ہم شیشہ ہم سنگ گراں
 عبدہ دیگر عبدہ، چیزے دگر ما سراپا انتظار او منتظر
 عبدہ، دہراست و دہراز عبدہ، ست ماہمہ رنگیم او بے رنگ و پوست
 عبدہ، با ابتدا بے انتہاست عبدہ، راج و شام ما کجاست
 کس زسر عبدہ، آگاہ نیست عبدہ، جز سر الا اللہ نیست
 لا اللہ تیغ و دم او عبدہ، فاش تر خواہی بگو ہو عبدہ
 عبدہ، چند و چگون کائنات عبدہ، رازِ وردن کائنات

مدعا پیدا نہ گردو زیں دو بیت

تازینی از مقامِ مآرمیت

(جاویدنامہ)

بیا اے ہم نفس باہم بنا لیم من و تو کشتہ شانِ جمالیم
 دو حرفے بر مرادِ دل بگوئیم پپائے خواجہ پشماں را بما لیم
 مسلمان آں فقیر کج کلا ہے رمید از سینہ او سوز آ ہے
 دلش نالد چرا نالد جو نداند نگا ہے یا رسول اللہ نگا ہے
 بہ پایاں چوں رسد ایں عالمِ پیر شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر
 مکن رسوا حضورِ خواجہ مارا حساب من ز چشم او نہاں گیر

صلی اللہ
 علیہ وسلم

(ارمغانِ حجاز)

سید نور محمد قادری چک نمبر 100 شمالی ضلع کوہاٹ

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ

۳ جون ۱۹۸۴ء

نعت رسول مقبول ﷺ

از خواجہ غریب نواز عطاءئے رسول سلطان الہند حضرت سید محمد معین الدین حسن چشتی اجمیری

رضی اللہ تعالیٰ عنہ (وصال ۶۳۳ھ ۱۲۳۶ء)

درجاں چو کرد منزل جانانِ محمد ﷺ
 صد در کشادہ در دل از جانِ محمد ﷺ
 مستغرقِ گناہیم ہر چند عذرِ خواہیم
 پڑمردہ چوں گیا ہم بارانِ محمد ﷺ
 ما طالبِ خدائیم برومینِ مصطفائیم
 بر در گہشِ گدائیم سلطانِ محمد ﷺ
 از دردِ زخمِ عصیاں ما را چہ غم چو سازد
 از مرہمِ شفاعتِ درمانِ محمد ﷺ
 از آب و گلِ سرودے و از جان و دلِ درودے
 داں راکہ نیست باورِ بُرہانِ محمد ﷺ
 در باغ و بوستانم دیگرانِ مخواں معینی
 با غم بس است قرآنِ بُستانِ محمد ﷺ



نظام تعلیم انا ندرتہ علم کا عرفان
ادائے حسن ادب چشتیہ خواجگان



علم عمل علی بابہا کا فیضان
عشق حضرت محمد مصطفیٰ و رحمان

علمی و وحانی، ادبی اور اخلاقی قدروں کی

قائم شدہ: ترجمان درسگاہ ۱۴۲۸ھ / ۲۰۰۶ء
زیرِ تعمیر:

جامعہ قادریہ عارفیہ
گیلان شریف (چک گلاں غزنی) ڈسکہ ضلع سیالکوٹ

پیر سید سعید شاہ صاحب
صدر: شہسوار فاؤنڈیشن

پیر سید محمد شاہ صاحب
صدر: اجالا ویلفیئر سوسائٹی

زیر نگرانی
سجاگان
گرام

آستانہ عالیہ تاجور چشتیہ
صابر سید عارفیہ گیلان شریف
0321-5667411

پیر سید سعید شاہ صاحب

جامعہ
مہتمم

صدرالسادات: سیشن کمیونٹی بورڈ